



## سوال

(444) زیر تعلیم رٹکی کی عدت

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ایک رٹکی کا خاوند کسی حادثہ میں فوت ہو گیا جب کہ وہ رٹکی کاچ میں زیر تعلیم ہے، اس بنا پر اس نے چار ماہ دس دن عدت گزارنی ہے، لیسے حالات میں کیا وہ تعلیم جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔

## الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، آما بعد!

جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہو، اس کے لیے اسی گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے جہاں اس کا خاوند رہائش پذیر تھا، وہ عورت اسی گھر میں سوئے، اس دوران اسے زینت کی اشیاء استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ خوبصورت کرنا، سرمدہ استعمال کرنا، خوبصورت کپڑے زینت تن کرنا، البتہ دوران عدت وہ کسی ضرورت کے پیش نظر گھر سے باہر جا سکتی ہے مثلاً وہ کسی ادارہ میں ملازم ہے اور ادارہ کی طرف سے اسے چھٹی نہیں مل سکی تو ملازمت کے لیے ادارہ آنا جانا جائز ہے بشرطیکر رات کو پہنچ گھر آجائے۔ اسی طرح کسی طالبہ کا حصول تعلیم کے لیے کاچ یا فہم مسائل کے لیے مدرسہ جانا بھی جائز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہو گا جن سے سوگ منانے والی عورتیں ابتناب کرتی ہیں۔ (واللہ اعلم)

هذا ما عندی والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 3، صفحہ نمبر: 375

محمد فتویٰ